



مَرْكَزُ اِسْلَامِيٍّ وَرُوحِيٍّ
Osoul Center
www.osoulcenter.com



مَوْسَى سَعْدَ الْأَبْدَلِيِّ الْأَرَجْحِيِّ
ABDUL AZIZ ALRAJHI FOUNDATION

Aqiiidaa Ahlu Suunnaafii Jamaa'aa



Qopheessaa

Shekh Abdul Aziiz Abdallah Arraajihii

Hiiikkaa

Daaiyah Jamaal Muhammad Ahmad

عقيدة
أهل السنة والجماعة

تأليف
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

ترجمة
الداعية جمال محمد أحمد



١٤٤٣هـ جمعية الدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات بالربوة ،

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الراجحي ، عبدالعزيز بن عبدالله

عقيدة أهل السنة والجماعة باللغة الأورومية / عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي ؛ جمال

محمد ؛ مركز اصول - ط ١ - . الرياض، ١٤٤٣هـ

٨٠ ص، ٢١ سم x ٢١ سم

ردمك : ٩٧٨-٦٠٣-٨٣٨٢-١٠-٣

١- العقيدة الإسلامية أ. محمد، جمال (مترجم) ب. مركز اصول ج. العنوان

١٤٤٣/١١٦٩٩ ٢٤٠ ديوبي

رقم الایداع: ١٤٤٣/١١٦٩٩

٩٧٨-٦٠٣-٨٣٨٢-١٠-٣ ردمك :



Kitaaba kana kanqopheesseefii dizaayin godhe wirtuu usuuli. Fakkileen isa keessatti fayyadamatte hundinu haqa wirtichaati. Wirtuun usuul karaa hundaan kitaaba kana maxxansuufii raabsuu ni hayyama. Garuu hundeen isaa ibsamuu qaba. Qabiyyeen jirjiiramuu hinqabu. Yeroo maxxansan qulqullumina ol'aanaan tahuu barbaachisa.

☎ +966 11 445 4900

📠 +966 11 497 0126

✉ P.O.BOX 29465 Riyadh 11457

✉ osoul@rabwah.sa

🌐 www.osoulcenter.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



Duree	9
Rabbitti amanuu	11
Malaaykatti amanuu.	13
Jinniin nijirtii dhuga'oomsuu	19
Kitaabatti amanuu.	23
Ergamtoota Rabbiitti amanuu.	29
Argaa Rabbiitiifii ahdiitti amanuu.	39
Murtii kufriifi iimaanaa	41
Sadarkaa sahaabaafi maatii nabii s.a.w. dhuga'oomsuu.	43
Guyyaa boodaatti amanuu.	47
Qormaatatti amanuu.	49
Howditti amanuu	53
Jannataafii ibiddatti amanuu.	55
Shafaa'atti amanuu.	57
Murtii Rabbiitti (qadaratti) amanuu.	61
Toltuufii hamtuu isaatti.	
Ulaagaaleen (seerri) laa ilaaha illallaah.	73
Seera muhammadurrasuulullaah.	75
Xumura	81





Duree

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰةُ وَالسَّلٰمُ عَلٰى رَسُولِ اللّٰهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلٰى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

Alhamdu lillaahi wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaah, wa aalihii wasahbihii ajmaiin.

Rabbiin ergamaa isaa nabi Muhammad s.a.w. qajeelloofii diin dhugaatiin erge, diin hundarra injifachiisuuf osoo mushrikoonni jibbanille. Nabiin s.a.w. ergaa Rabbii geessee jira.karaa isaarraa sahaabonni taabi'iyyooniifii imaammonni salafa saaliharraa tahan hordofanii jiran. Muslimtoonni hundi Rabbitti amanan, malaykaa isaa, kitaaba isaa, ergamtoota isaa, guyyaa aakhiraatiifii qadara (murtii isaa) toltuufii hamtus ni amanan. Ajaja Rabbii dalaganii dhoowwaa isaarraa dhoowwaman. Seera Rabbiirratti jiraatanii qajeellorratti jiraatan.

Isaan ahlu sunnaafii jamaa'ah jedhaman. isaan warra

Aqiidaa Ahlu Suunnaafii Jamaa'aa

haqaati. Garee gargaaramtuudha.eegasii yeroon dheerate gareen hamaan bakka bu'e. amantii jijiiranii kanbiroo bakka buusanii, waldhabanii, gareegareen walmorman, garuu Rabbiin ummata kanaaf hundee diin isaanii isaaniif tiiyse, hadiisatti nabiin s.a.w. akki jedhe

عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لَا تَزَالْ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ
ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَدَلَهُمْ».

“Tuutti ummata kiyyaraa taate takka injifattuu haala taateen haqarratti tahirraa hindeemu namni isaan dhiibe isaan hinmiidhu.Kanaaf kitaabni kuni aqiidaa kana nama barsiisa, Rabbiin nama hunda haqarratti haajajabeessu. Inni dandayaadha.

Nagayaaf Rahmanni Rabbii nabiyyii isaarratti haajiraat





Rabbitti Amanuu

Muslimtoonni Rabbitti ni amanan, Rabbummaa isaa, mootummaa isaa, gabbaramaa haqaa tahuu isaa nidhuga'oomsan. Gooftaa uumamtoota hundaati. Inni kan uumme wanni biro hundi uumamtoota isaati.

Arshii isaarratti oltahhee jira.

Rabbiin maqaalee gaggaarii ittiin uf moggaase qaba. yookaa Rasuulli isaa isaan moggaase. Sifaata ol'aantuu taate qaba. tan inni ufin wassafe yookaa ergamaan isaa isaan wassafe.

Inni haqaan gabbaramaadha, wanni biro hundi dharaan gabbarantuudha. Rabbiin s.w. akkana jedhe

﴿ذَلِكَ يَأْتِي اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّمَا مَا يَكْدُعُونَ كِبْرًا مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَطَلُ﴾ [الحج: 62].

“Akkasi Rabbiin isaatu mootii haqaani, wanni isaa gaditti kadhatan suni dhara.’ Hajji 62.

Aqiidaa Ahlu Suunnaafii Jamaa'aa

Namni Rabummaa isaa shakke yookaan gooftaa waa hundaa tahuu isaa shakke, yookaa waahunda uumuu isaa shakke, yookaa ol'aantummaafii oltahuu isaa shakke, yookaa arshii isaarratti oltahuu isaa shakke, umamtoota isaarraa achibahaa tahuu isaa shakke, yookaa maqaa maqalee isaarraa tahe morme, akka beekaa, dandayaa, dhagayaa, argaa, tahuu isaa shakke yookaa morme, yookaa sifaata sifaata isaarraa tahe morme akka dhageytii isaa, argaa isaa, beekkomsa isaa kan waahundaan beeke, yookaa dandeeytii isaa namni morme, namni kana hunda shakke yookaa morme nikafara.

Namni gooftummaa isaa morme, yookaa ibaadaa haqa godhatuu isaa morme, yookaa kan isa hintahintu ibaadaa haqa godhata jechuu yaade, inni kaafira mushrika wantoota dubbatame kana tokko mormuun kafara.



Malaaykatti Amanuu

Muslimtoonni malaykatti ni amanu. Malaykaan umamtoota tokko kan hojii adda addaarratti Rabbiin isaan ramade, nabiyyitti ergaa fidan, nabiinis nidubbatan. Ummata hinmul'anne. Yeroo takka takka ni mul'atan akka jibriil mariyamitti mul'ate.

Akkasuma sahaabaan jibriil bifa dargaggeessa uffanni adii rifeensi guraachaa tahee itti dhufe. Nabii keenya islaamarraa, iimaanarraa, ihsaanarraa gaafate. ammas qiyaamaafi mallattoo isiirraa gaafate.

Malaaykaan ifarraa umamuu ni amanan.sahiiha muslim keessatti nabiin s.a.w. akki jedhan:

«خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدُمٌ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ» يعني: من طين».

“Malaaykaan ifarraa uumamte, jaanniin belbela ibiddaarraa uumame, aadam waan isinii himamerra (biyyerraa) uumame.

ويؤمّنون بشرفهم وفضلهم ومكانتهم عند الله تعالى، ﴿لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِنُونَ﴾ [التحريم: 6].

Muslimtooni (ahlussunna waljamaa'ah) ni amanan, malaaykan sadarkaa Rabbi biraan qaban. Rabbiin s.w. akkana jedha “waan inni ajaje Rabbiin hinmorman, waan ajajaman nihojjatan” Suuraa Tahriim 6

Ahlussunnaan hojiilee malaaykaatti ni amanan, isaanirraa warra ajaja qooduutu jir

﴿وَالْمَرْسَلَتِ عَرْفًا﴾ [المرسلات: 1].

(Maleykota) wal hordoftuu ta'anii ergamaniinin kakadha.

﴿فَالْعَصَفَتِ عَصْفًا﴾ [المرسلات: 2].

(Bubbeewan) humnaan bubbisuu bubbisaniinis;

﴿وَالنَّشَرَتِ نَشَرًا﴾ [المرسلات: 3].

(Bubbeewan rooba) faffacaasuu facaasaniinis;

﴿فَالْفَرِقَتِ فَرَقًا﴾ [المرسلات: 1].

(Keeyyatoota haqaafi dhara) adda baasuu adda baasanittis;

﴿فَالْمُلْقَيَتِ ذَكْرًا﴾ [المرسلات: 1].

(Malaykota) ergaa buuftotattis;

﴿وَالْتَّرَعَتِ غَرْقًا﴾ [النازارات: 1].

[Maleykaa lubbuu kaafiraa] humnaan buttuunin (kakadha).

[Kan lubbuu mu'uminaa] luqqisuu suuta luqqiftuunis.

[Kan ajaja Rabbii geessuuf] adeemuu demaniinis.

﴿فَالسِّيْقَاتُ سَبَقَةٌ﴾ [النازعات: 4].

Maleykota] dorgommii wal dorgomaniinis

﴿فَالْمُدِيرَاتُ أَمْرَأَةٌ﴾ [النازعات: 5].

(Kan) ajaja Rabbii gara dachii geessaniininis (nan kakadha

Warren arshii baatan malaykarraa amma nama afur guyyaa qiyaamaa nama saddeeti. Rabbiin s.w. akkana jedhe

﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْلِ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْهَمُ يَوْمَئِذٍ ثَمَنَيْهُ﴾ [الحاقة: 17].

“Malaaykichi moggaa isiirratti tahan, guyyaa san arshii Rabbii keetii isaan gubbatti malaaykaa saddeettu baata”. Suuratul haaqqah.mm

Isaanirraa karrubiyyuuna kan jedhamantu jira. Isaan naannawa arshiitti jiran warra arshii baatuun wajji kabajaa guddoo qaban. Isaan Rabbiin qulqulleessan, muimintootaaf araarama kadhatan.

Rabbitiin s.w. akkana jedhe

﴿الَّذِينَ يَكْلُمُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ، يُسَيْحُونَ بِمُحَمَّدٍ رَّبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [سورة غافر: 7].

Aqiidaa Ahlu Suunnaafii Jamaa'aa

“Isaanoowwan arshii baatan warri moggaa isaatti argamanis rabbiin faarsan galtoomfachaa, isatti amanan, warren amananiifis araarama kadhatan”. Suuraa Gaafir 7

Isaanirraa warra adurratti ramadameetu jira, isaanirra kan ji’arratti ramadameetu jira, isaanirra kan urjirratti ramadameetu jira, isaanirra kan jannataafii qananii isii qopheessurratti ramadameetu jira, isaanirra kan ibiddaafii azaaba isii keessa qopheessutti ramadameetu jira. Isaanirraa kan gaararratti ramadameetu jira, isaanirraa ilmaan aadamirratti ramadameetu jira.

Isaanirraa kan bishaan hormaataa ka gadameessa keessa taaerratti ramadamantu jira. Isii tajaajilan hanga uumaan isii guutamtutti.

Isaanirra kan namaan tiiysurratti ramadamantu jira.

Isaanirraa kanneen hojii namaan barreessurratti Ramadan, toltuufi hamtuu isaa kataban. Tokkotokkoo namaan malaayka afur guyya afur halkan itti ramadama. duraaf duuba deemee kan isa tiiysu lameeniifii kan bitaaf mirga taa’ee hojii isaa barreessu lameen.

Hadiisatti “hakaniifii guyyaa malaykan isirritti waldabran”. bukhaarii.

Isaanirraa kan lubbuu nama du’uu fuudhutti ajajamejjira. Dureen isaanii malakul mowti jedhama lubbuu duutu isaatu qaamarraa baasa. Eegasii gargaartonni isaa fuudhanii kafana isii keessa kaayan. Rabbiin ammo isaatu itti ajaja. Rabbiitu ajjeessa jechuun ibsame aayata kana keessatti

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّ الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ [الزمر: 42]

“Yeroo du'a isii Rabbiin lubbuu baasa, tanduin ammo hirriba isii keessatti baasa”.

Malakul mowti ajjeesa jechattis ibsame,

﴿قُلْ يَنْوَفَنَّكُمْ مَلَكُ الْمَوْتَ الَّذِي وَكَلَّ بِكُمْ﴾ [السجدة: 11]

“Jedhi malkul mowtiin isinitti ramadame isin ajjeesa (lubbuu teessan baasa). Suuraa Sajdaa 11

Ergamtoota malaaykaattu ruuhii baasanis himamee jira.

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ [الأعراف: 61]

“Hanga tokkoo keessanitti duuti dhuftetti ergamtoonni keenya ruuhii isaa baafti osoo daangaa hindabarre”. Suuraa An'am

Isaanirraa kan yeroo qiyaamaan geese xurunbaa afuuufuuf qophaaye jira, sun israafil.

Isaanirraa kan roobarratti ramadame jira suni miikaa'il. Isaanirraa kan ergaa Rabbi

Nabiyyootatti gadi buusutti ramadame jira suni jibriil aleyhissalaam.

Matoonnii malaykaa sadeen kana jibriil, miikaa'il fii israafil.

Jibriil wahyii ittiin qalbiin namaa ittiin jiraatturratti ramadame.

Miikaaiil rooba isaan dachiifii qaamni lubbuqabeeyyi ittiin jiraatturratti ramadame.

Israafil xurunbaa yeroo qiyaamaan geese afuufutti ramadame, kuni waan qaamni du'a booda ittiin kaafamu du'a booda lubbuun qaamatti deebiti.

Nabiin Rabbii salaata halkanii keessatti du'aa'ii bantuu salaataa irratti Rabbii malaaykaalee kana sadeeniittiin maganfatan.

في «صحيح مسلم» أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي يَسْتَفْتَحُ بِهَذَا الْاسْتِفْتَاحِ: «اللَّهُمَّ رَبَّ جَبَرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عَبْدَكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا أَحْتَلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ».

Sahiiha muslim keessatti nabiin s.a.w. halkan yeroo salaataaf dhaabbatan du'aa'ii tanaan salaata isaanii banan

“Allaahumma Rabba jibraa'iil wa miikaa'iil waisraafil faaxirassamaawaati wal'ardi aalimal geybi washahaadaa, anta tahkumu beyna ibaadika fiimaa kaanuu fiihi yakhtalifuun, ihdinii limakhtulifa fiihi minalhaqqi bi iznika innaka tahdii man tashaau ilaa siraixin mustaqiim”.

ويعتقدون أنَّ مَنْ جَحَدَ مَلَكًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَهُوَ كَافِرٌ.

Warri sunnaa namni malaaykarraa malaykaa tokko morme nikafara jechaa amanan.



Jinniin nijirtii dhuga'oomsuu

Ahlussunaan jinniin umamtoota Rabbiin uume tahuu nidhuga'oomsan. Isin ummata tokko akkuma ilma namaatti diin qabachuu dirqaman.

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [سورة الذاريات: 56]

Rabbiin s.w. akkana jedhe “jinniifi namas haa nagabbaraniif malee hinuumne” Suuraa Zaariyaat 56

في «صحيح مسلم» أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ» قَالُوا: وَإِيَّاكَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَإِيَّايَ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعْانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ؛ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ».

Namni jinniin hinjirtu jedhee morome nikafara. Rabbiif rasuula kijibsiise, nama hunda qariina wajji jira. Hadiisa sahiihha muslim keessatti “tokkoon keessan hintaane jinnirraa qariinni isaa itti ramadamu malee, atilleen moo

Aqiidaa Ahlu Suunnaafii Jamaa'aa

yaa ergamaa Rabbii? Anilleen ee garuu kiyya Rabbiin irratti nagargaaree islaamayee jira toltutti malee nan ajaju.

﴿إِنَّهُ يَرَنُكُمْ هُوَ وَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ﴾ [الأعراف: 27]

Jinniin ummata dhokatoodha isiin nugartii nuti isii hingarru. Rabbiin akkana jedhe

“Isaafii gosti isaatis bakka isin hingarreraa isin garti”
Suuratul A’iraaf 27

Yeroo garii suuraalee adda addaatiin nimul’atu. Suuraa namaatiifii bineensaatiiniis. Rabbiitu isaan dandeesise. Guddaan isaanii ibliisi.

Sheyxaanni jinni kafarte, ta islaamoyte sheyxaana hinjedhamtu.

Warri sunnaa sheyxaanni jiraachuu nidhuga’oomsan. Namni wanni sheyxaana jedhamu hinjiru jechuu yaade kafare. Rabbiifii ergamaa isaa kijibsiise waan taheef.

Rabbitiin akkana jedhe

﴿شَيَاطِينَ الْأَئِنَسِ وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُحْرَفَ الْقَوْلَ عَمَرْوًا﴾ [الأنعام: 112].

“Shetxaanooni namaafii jinni gariin isaanii garii isaaniitti jecha miidhagaa hasaasan jallisudhaaf jecha.”
Suuraa an’aam. 112

Rabbitiin akkana jedhe

﴿وَالشَّيَاطِينَ كُلُّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ﴾ [ص: 37].

“Sheyxaanota hunda jaartuufi bahr limtuudhaati”.
Suuraa saad 37

Wannii shiftaan hundi sheyxaana nijedhamti, hadiisatti

«الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ».

“Sareen gurraattiin sheyxaana”.

Rabbiin akkana jedhe

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ [سورة فاطر: 6].

“Sheyxaanni isiniif diina diina godhadhaa”. Suuraa
Faaxir 6







Kitaabatti Amanuu

Warri sunnaa Kitaaba buufamtetti ni amanan. Akka Rabbiin ilmaan namaa qajeelchuuf ergamtoota isaarratti kitaaba buuse ni dhuga'oomsan. Rabbiin akkana jedhe

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَيَجْدَهُ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيًّا مُّبَشِّرًا وَمُنذِرًا وَأَنْزَلَ عَنْهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحُكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعْدًا بَيْنَهُمْ فَهُدَى اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنَوْا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ يُإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

[البقرة: 213]

“Namoonni amantii tokko irra turan; ergasii Rabbiin nabiyyoota gammachiiftotaafi akekkachiiftota taasissee ergesaan waliinis kitaaba akka inni waan isaan isa keessatti wal dhaban gidduu namootaatti murteessuuf dhugaan buuseWarra inni kennameef qofatu erga ragaawwan ifa ta'an isaaniif dhufanii booda wal jibbaa gidduu isaanii jiru irraa kan ka'e wal dhaberabbiin fedha

Isaatiin warra amanan gara dhugaa waan isaan irratti wal dhabanii qajeelcheRabbiin nama fedhe gara karaa sirraawaa qajeelcha.

Kitaabban kuni nama qajeelchuufi ifaadha,dawaa waan qoma keessatti taheeti.

Warri sunnaa kitaabban Rabbiin maqaa dubbate kanneenitti ni amanan. Isiin towraat, zabuur, injiil, qur'aana, suhufa ibraahim, suhufa muusaa, garuu caalaan isii, xumurri isiifii kan isii hunda shaaree injifate qur'aana kabajamaadha.

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُوتِكَ مِثْلَ مَا أُوتِكَ مُوسَىٰ أَوْلَمْ يَكْفِرُوا بِمَا أُوتِكَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلٍ قَالُواْ سِحْرٌ تَظَاهِرَ وَقَالُواْ إِنَّا يُكَلِّ كُفُّرُونَ﴾ [القصص: 48].

Eegasii tawraattu itti aane, bakka hedduuti qur'aana keessatti ibsee jira. “yeroo dhugaan nubiraa tahe isaanitti dhufe maaliif kitaaba akka muusaan kennamee hinkennamin jedhan, waan muusaan ammadura kennametti hinkafarree? Falfala lamaatu walgargaare nuti hundattuu kafarree jirra jedhan.” Suuraa qasas 48.

﴿ثُمَّ أَتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي هُنَّ أَحْسَنَ وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِعَلَّهُمْ يَلْفَأُونَ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: 154].

Rabbiin s.w. akkana jedhe “eegasii muusaaf kitaaba kennine kan tolche sanirratti guutuu, akkasuma adda babaasaa waa hundaa, qajeelchaa, rahmataa isaaniif buuse

akka isaan walitti dhufiinsa Rabbii isaanitti amananiif.

﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَأَنْقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأنعام: 155]

Rabbiinakkana jedhe “kuni kitaaba nuti isa buufne kan baraka qabu isa hordofaa Rabbi sodaadhaa akka rahmanni isiniif godhamu.” An'aam 155.

Kitaabban kana akka walii galaatti itti amanuu barbaachisa. Rabbiin ilmaan namaatiin qajeelchuuf akka ittiin murteeffataniif isii buusee beekuu. Ammo qur'aana kabajamaa iimaana bal'aa adda tahe itti amanuu barbaachisa. Kuni qur'aana kana rabbumaatu dubbate qubeef sagaleen isaas Rabbirraayi, jibriilitti dubbate, jibriil dhagayee wahyii ergaa Rabbiitiin qalbii nabiitti gadi buuse.

﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِّرِينَ﴾ [الشعراء:

.[194-193

Rabbiinakkana jedhe “jibriiltu isa gadi buuse onnee teetirratti akka gorsitootarraa taatuuf”. shu'araa'I 193-194

Qaraatiin qur'aanaa ibaadaadha, Rabbiin akka isiin isa gabbaru nu ajaje, namni harfii takka qur'aanarrraa qara'e toltau kudhantu isaaf tahe akkuma hadiisa abdallah ibnu mas'uud biratti mirkanaayetti.

Qaraatiin qur'aanaa hubannoo hiikcaa qur'aanaatti nama geessiti. Bu'urri milkiidhaa oduu qur'aanaa dhuga'oomsuudha, murtii isaatti hojjatuudha, ajaja

isaa raawwatani waan inni dhoowwerraa fagachuudha. Murtessaa isaatti hojjatanii walfakkaataa isaatti amanuudha. Gorsa isaatiin gorfamuu, dhoowwaa isaatiin dhoowwamuu, waayee jiruu hunda keessatti isatti murteefachuu. Namni oduu isaa dhuga'oomse, murtii isaa raawwate, inni nama milkaaye kan nagaya bahu. Namni oduu isaa kijibsiise, yookaa oduu isaa hindhuga'oomsin inni hoongawaa kasaaraadha.

Warri sunnaa namni kitaaba Rabbiin buuse kijibsiise kijibaa kaafira tahuu isaati amanan. Namni kitaaba tookkoo yookaa cinaa isaa kijibsiise kafare. Akkasuma namni aayata tokko yookaa harfii takka qur'aanarraa kijibsiise kafare.

Rabbiin akkana jedhe

﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِعَضِ الْكِتَابِ وَتَكُفُّرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَاءَ مَن يَفْعُلُ
ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خَزْنٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدَّ
الْعَذَابِ﴾ [البقرة: 85]

“sila garii kitaabaatti amantaniiti garii kitaabaatti kafartanii? galanni warra isinirraa san dalaguu xiqqeenya addunyaa keessatti tahe malee hintaane, guyyaa qiyaamaa azaaba hamatti deebifaman”. Suuraa baqaraa 85.

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى
رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلٍ وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَكِتِهِ
وَكُنْتِهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: 136]

“Yaa warra amantan! Rabbitti, ergamaa Isaatti, kitaaba ergamaa Isaa irratti buufamettiifi kitaaba Inni sana dura buusetti amanaaNamni Rabbitti, maleeykota Isaatti, kitaabota Isaatti, ergamtoota Isaattiifi Guyyaa Aakhiraatti kafare, inni dhugumatti jallina fagoo jallateera.”

Warri sunnaa namni qur'aanni kuni umaama jedhee yaadu kaafira tahutti amanan. Qur'aanni haasawa Rabbii malee uumamaa miti.







Ergamtoota Rabbiitti amanuu

Warri sunnaafii jamaa'aah ergamtoota Rabbiitti ni amanan. Rabbiin ilmaan namaarraa ergamtoota filee nama akka karaa haqaa barsiisaniif itti erge. Rabbiin ergaa isaa gara jibriiliin itti ergee kitaaba haqaan buuse isaan wajji.

Isaan diin Rabbiiti ummataan gayan. Waan Rabbiin jaalatutti nama ajajan. Waan Rabbiin jibburra nama dhoowwan. Haqaan ummata jiddutti murteessan.

Warri sunnaafii jamaa'aa nabiyyoota Rabbiin qur'aana keessatti maqaa dhawe itti amanan. Suuratunnisaaiifii an'aam keessatti kan dubbataman.

Rabbiin akkana jedhe

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالْأَنْبِيَاءَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَأَلْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونُسَ وَهَذُرُونَ وَسُلَيْمَانَ وَإِتَّيْنَا دَاؤِدَ زَبُورًا﴾ [النساء: 163].

“Dhugumatti, Nuti akkuma gara Nuuhiifi nabiyyoota

isa booda turaniitti beeksisa goone, gara keetti beeksisa goonee jirra; Gara Ibraahim, Ismaa'iil, Isihaaq, Ya'aquub, ilmaan Ya'aquub, Iisaa, Ayyuub, Yuunus, Haaruuniifi Suleymaanittis beeksisa goonee jirraDaawuudiifis 'Zabuur' kennineerra.

﴿وَتِلْكَ حُجَّتَنَا إِذْنَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرَفَعُ دَرَجَتِي مَنْ شَاءَ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: 83]

"Isheen kun ragaa keenyalbraahiimiif ummata isaa irratti kenninee jirraNama feenes sadarkaawwan keessatti ol fuunaDhugumatti, Gooftaan kee ogeessa, beekaadha.

﴿وَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِهِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَرُونَ وَكَذَّالِكَ بَنْزَرِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨١﴾ وَزَكْرِيَا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِنَ الْأَصْلَاحِينَ ﴿٨٢﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: 86-84]

"Isihaaqiifi Ya'aquubiin isaaf kennineHundaahuu ni qajeelchineSana duras Nuuhiin qajeelchinee jirraSanyii isaa irraas Daawuud, Sulaymaan, Ayyuub, Yuusuf, Muusaafi Haaruunin (qajeelchinee jirra) Akka kanatti toltaa hojjattoota mindeessina.

Zakariyyaa, Yahyaa, Iisaafi Ilyaasiinis (ni qajeelchine) Hundinuu gaggaarii irraayyi.

Ismaa'il, Yasa'i, Yuunusiifi Luuxiinis (qajeelchine) Hundaayyuu aalama irra caalchifne.

Huud, saalih, shueybi, Muhammad s.a.w. itti ida'uun lakkoofsi isaani 25 taha. Maqaa isaanii adda baasanii itti amanuu barbaachisa. Warren kanarraa hafan akka walii galaatti itti amanuu barbaachisa.

﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلٍ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْنَاهُمْ عَلَيْكَ﴾

[النساء: 164].

Muslimni ni dhuga'oomsa Rabbiiin ergamtoota hedduu erge maqaaleefii lakkoofsa isaanii rabbuma qofaatu beeka.

Rabbiiin akkana jedhe “ergamtoota amma dura sitti odeessineefi ergamtoota sitti hin odeessinis (engine)”.

Ni amanan namni ergamtoota kijibsiise kaafira tahuu. Yoo ergamaa tookko qofa kijibsiise akkuma waan hunda kijibsiiseetti kaafiratti laalama. Ergamtoonii walitti gurmaawoodha waan tahaniif, kandura kan boodaatiin gammachiisa. Kan boodaa kan duraatti amana.

Rabbiiin akkana jedhe

﴿كَذَّبَتْ قَوْمٌ بِنُوحِ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: 105].

Ummanni nuuh ergamtoota Rabbii kijibsiifte”.

﴿كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: 123].

Akkana jedhe “Aad ergamtoota kijibsiifte”.

﴿كَذَّبَتْ ثَمُودٌ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: 141].

“Samuud ergamtoota kijibsiifte”.

﴿كَذَّبَ قَوْمٌ لُّوطٌ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: 160].

“Ummanni lux ergamtoota kijibsiifte”.

﴿كَذَّبَ أَصْحَابَ نَيْكَةَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: 176].

“Warri eeykaa ergamtoota kijibsiifte”.

Akkasumma namni ergamummaa nabiyyii tokkoo shake kafare.

Akkasuma namni kijibaan nabiyyummaa himate kafare.

﴿وَلِذَّ أَخَذْنَا مِنَ الظَّالِمِينَ مِثْقَلَهُمْ وَمِنَكَ وَمِنْ فُوجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَبْنَ مَرْرَيمٍ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِثْقَلًا غَلِظًا﴾ [الأحزاب: 7].

Caalaan ergamtootaa shanan gameeyyiidha.

Nuuh, ibraahim, muusaa, iisaa fii Muhammad s.a.w. isaan kuni shaman suuraa ahzaabiifi shuuraa keessatti dubbatami.

Rabbiin akkana jedhe

﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الَّدِينِ مَا وَصَّنَّا بِهِ، نُؤْحَانَا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تُنَفِّرُوهُ فِيهِ كُبْرَ عَلَى الْمُسْرِكِينَ مَا نَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ [الشورى: 13].

“Amantii irraa waan Nuuhiif dhaameefi isa gara kee wahyii goone, waan Ibraahim, Muusaafi Iisaaf dhaamne karaa isiniif godhe[Inni] amantii sirriitti hojjadhaa, isa

keessattiis addaan hin babahinaa jechuudha Wanti ati itti waamtu mushrikoota irratti guddateera! Rabbiin nama fedhe gara isaatti filata; nama tawbabates gara Isaatti qajeelcha.”

Caalaan warren murannoo keessaa jaalalleewan Rabbii lameen ibraahiimiif Muhammad s.a.w.

Caalaan jara lameenii ammo nabii keenya Muhammad s.a.w. inni caalaa ilmaan namaa hundaati.

قالَ رَبِّكُلَّتِهِ: «وَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا فَخْرٌ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَسْتَشُّقُ عَنْهُ الْأَرْضُ، وَلَا فَخْرٌ، وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، وَلَا فَخْرٌ، آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَائِي». .

Nabiin Rabbii s.a.w. akkana jedhe “ani caalaa ilmaan namaati guyyaa qiyaamaa keessatti, ufdhaaduuf miti. Ani dura nama lafti irraa dhootuuti, uf dhaaduuf miti. Harka kiyyarratti taha gabateen galataa, uf shaaduuf miti. Aadamiifii warri isa boodaas gabatee kiyya jalatti tahan”.

Inni carraa keenya anbiyootarrraa, nutis carraa isaati ummatarraa. Iamanuun dirqama., isadhuga'oomsuun, isajaalatuun, isa deeggaruun, haasawa isaa dhuga'oomsanii qeebaluun waajiba.

Ajaja isaa raawwachuuun waan ajaje dalaguun tan irraa dhoowwerraa dhoowwamuun.

Akka inni karaa godhetti Rabbi gabbaruun.

Namaafii jinnittis akka waliigalaatti ergamuu isaa

amanuu barbaachisa. Arabaafii ajama (hawaasa araba hintahin) addunyaa hundatti ergamuu isaa mirkaneessuu barbaachisa.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [سبأ: 28].

Nuti nama hundaaf walumaagalatti gammachiisaafi akekkachiisaa goonee malee si hin ergineGaruu irra hedduun namootaa hin beekanu.

﴿ وَأَوْحَىٰ إِلَيْهِ هَذَا الْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَغَّ ﴾ [الأنعام: 19].

Rabbiinakkana jedhe “qur'aanni kuni gara kiyyatti beeysifame, akka isiniifii warra inni itti gayellee gorsuuf jecha”.

﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ أَسْتَمِعُ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجِيبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَأَمَّا بِهِ وَلَنْ شَرِكْ بِرِبِّنَا أَحَدًا ﴾ [الجن: 1-2].

(Yaa Muhammad SAW!) Gareen jinnii irraa ta'an (Qur'aana) dhageeffatanii (akkana) jedhaniin wahyiin natti godhameera jedhi: “nuti dhugumatti, Qur'aana dinqisiisaa dhageenye

[Inni] gara karaa sirriitti qajeelcha; kanaafuu, isatti amanneerra Gooftaa keenyattis waan tokkollee hin qindeessinu.

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوْا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴾ [الأحقاف: 29].

(Yaa Muhammad!) Yeroo garee jinnoota irraa ta'e kan Qur'aana dhageeffatan ta'anii gara keetti garagalchine [yaadadhu] Yeroo isa bira dhufan "cal'isaa dhageeffadhaa" (waliin) jedhan Yeroo inni xumuramu immoo dinniintota ta'anii gara ummattoota isaanii deebi'an.

Ni jedhan: "Yaa ummata keenya! Nuti kitaaba Muusaa booda bu'e, kan waan isa duraa dhugoomsaa ta'e, kan gara dhugaafi gara karaa sirrii qajelchu dhageenyee jirra".

Nabi Muhammad booddee nabiyyootaafii ergamtootaati isa booda nabiyyiin hinjiru. Shari'aan isaatis shari'aa xumuraati.

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [الأحزاب: 40].

Muhammad dhiirota keessan irraa abbaa nama tokkoos hin taane Garuu inni ergamaa Rabbiitiifi xumura nabiyyootaa ta'eera Rabbiinisa waan hunda beekaa ta'eera.

وقالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي، كَمَثَلَ رَجُلٍ بَنَى بَيْنًا فَأَخْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، إِلَّا مَوْضِعُ لِبَنَةٍ مِّنْ زَاوِيَّةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطْوُفُونَ بِهِ، وَيَعْجَبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ: هَلَا وُضِعَتْ هَذِهِ الْلِّبَنَةُ؟!» قَالَ: «فَإِنَّا لِلنِّسْكَةِ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ».

Nabiin s.a.w. "fakkiin kiyaafii kan anbiyoota na dura akka nama mana jaaree bareechee tolchee, moggaa takkatti bakka bilookeeta tokko kaayan banaa hanbise, namni itti naannayee daawwatee dinqisiifatee haalaan

bareeda bakka takkittii san maaliif cufuu dhaban jedhan, ani bilookeeta sani, ani xumura anbiyootaati.”.

Namni nabi Muhammad s.a.w. ilmaan namaa hundatti ergamuu morme kafare, yookaa araba qofatti ergame namni jedhe kafare. Yookaa akka khadar sharii'aa muusaa keessaa bahetti namni gariin sharii'aa Muhammad keessaa bahuun nitaha jedhe kafare.

Kanneen yaaduu isaatiin nikafara.

Namni nabi Muhammad booda nabiyyiin nidhufa jedhe nikafara. Rabbiifi ergamaa Rabbii kijbsiiseera.

Rabbitifi ergamaa Rabbii jaalachuun nama hundarratti dirqama, isiin hundee iimaanaati, namni Rabbitifi ergamaa Rabbii hinjalanne muslimaa miti.

Jaalalti guutuu taate Rabbitifi ergamaa isaa waan hundarra jaalachuudha.

Namni waan takka Rabbitifi ergamaa isaarra jaalate iimaanni isaa ir'uudha. Akka dirqama godhame sanitti hin amanne adaba guddaatu isarratti taha jallinaafii laafina iimaana isaatiif jecha.

﴿ قُلْ إِنَّ كَانَ أَبَا آتُوكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَاتُكُمْ وَأَمْوَالُ أَقْرَبَفُطُومُهَا وَتَجَنَّرَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسِكُنٌ تَرْضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مَرْبَكُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَنَّ أَنَّهُ يَأْتِيٌ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَسِيقِينَ ﴾ [التوبه: 24].

Rabbiiin s.w. akkana jedhe “Yoo abbootin keessan,

ilmaan keessan, obboleeyyan keessan, niitiwwan keessan, firoonni keessan, qabeenyi isin horattan, daldalli isin hir'achuu ishee sodaattaniifi manneen isin jaallattan Rabbi, ergamaa Isaatiifi karaa Isaa keessatti qabsaa'uu irra gara keessanitti jaalatamaa ta'e, hanga Rabbiin murtii Isaatiin dhufutti eegaa" jedhiRabbiinis ummata finciltoota hin qajeelchu.

Warri sunnaa halkan deemuufii mi'iraaja samitti olbahuu nabii keenyaa nidhuga'oomsa. Qaamaafi lubbuu isaatiin haala dammaqaa taheen hirraiba manaamaan osoo hintahin. Yeroo takka.







Argaa Rabbiitiifii Ahditti amanuu

Warri sunnaafii jamaa'ah Rabbiin guyyaa qiyaamaa ijaan argutti ni amanan. Dirree qiyaamaattis eega jannata seenanis ni argan. Rabbiin akkana jedhe

﴿مُجْوَهٌ يَوْمَئِنْ تَأْسِرُهُ﴾ [إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ] [القيامة: 22-23]

“Fuulli guyyaa san iftuudha, gara Rabbii isii laaltuudha”.

عن جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجْلَيِّ؛ قَالَ: قَالَ عَنْ أَنَّهِ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ»، وَفِي لَفْظٍ: «لَا تُضَاهُوْنَ فِي رُؤْيَتِهِ»، وَفِي الْلُّفْظِ الْآخَرِ: «هَلْ تُضَارُوْنَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحُواْلِيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟!».

Hadiissoowwan hedduun dubpii kana ibsitee jirti. Nabii keenyarra himamtee jirti mu'imintooni guyyaa qiyaamaa rabbii keenya ni argan, eega jannata seenanis ni argan.

jariir binu abdillaah albajaliyyirraa odee effamee nabiin s.a.w. akkana jedhan jedhe “ isin guyyaa qiyamaa Rabbii keessan nigartan, arguu isaa keessatti wal hindhoysitan,

Jedha birootti walitti hin rakkiftan argaa isaa keesatti, oduu birootti

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذِرِينَهُمْ وَأَشَهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهَدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ [الأعراف: 172]

Rabbiin akkana jedhe “ Yeroo Gooftaan kee ilmaan Aadam irraa, dugda isaanii irraa sanyii isaanii baaseefi "Ani Gooftaa keessanii mitii?" jechuun lubbuu isaanii irratti ragaa isaan godhe [yaadadhu]Isaanis "Eeyyeen; ragaa baanee jirra" jedhanKunis akka isin Guyyaa Qiyamaa "Dhugumatti, nuti kana irraa daguu keessa turre" hin jenneefi.

“Yookiin abbootii keenyatu duraan (Rabbitti) qindeessani; nutis sanyii isaaniin boodaa turreSila waan balleessitooni hojjataniin nu balleessitaa?” akka isin hin jenneef (ragaa isin goone).

Akka isaan (yaadanii)fi deebi'aniif jecha akka kanatti keeyyatoota keenya addeessina. Warri sunnaa lowhiifi qalamatti ni amanan.

Arshiifii kursiyyitti ni amanan.





Murtii kufriifii iimaanaa

Warra qiblaa tokkollee diliidh laganiif hin kafarsiifnu yoo halaali jedhan malee. Yoo haram halaal jedhe malee yoo waajiba beekamaa morme malee, yoo waan islaamummaa diigu jechaan yookaa hojiin hojjate malee.

Warra qiblaa muslimtoota jennaan. Waan diin nabiin dhufaan dhuga'oomsaniin. Waan waan islaamummaa diigu hinhajjatiniin.

Nama dhuunfaatiif daliila (ragaan) malee jannataan yookaa azaabaan raga hinbahu. Kan akka jara 10n jannataan gammachiifamanii, kan akka saabit binu qeysii bin shammaas fii kanneen biroollee sahaabarraa.

Mu'imintoota gaarii dalaganiif Rabbiin dhiifama isaanii godhee rahmata isaatiin jannataan isaan seensisun kajeelaaf. Isaanirratti sodaachuudhaan wajji.

Nama hamtuu dalagu ammo azaaba Rabbiit irraa sodaadha, garuu rahmata Rabbiirra abdiisa hin murachiisu.

Aqiidaa Ahlu Suunnaafii Jamaa'aa

Warra haqaatiifii amaanaa ninjaladha. Warra gantuufii loogii ninjibba.

Sunnaafii jamaa'ah nan hordofa, gargarbahuu, waldiduufii faca'uu ninjibba. Waan beekkomsi isaa naaf hingalin rabbumaatu beeka jedheetin gama Rabbii irkisa.

Eega warra qiblaarraa tahe Imaama jallaafii qajeela hundaa duubaan itti hidhatanii salaatuun nitaha jennee yaanna. Du'aa isaallee irratti salaanna. Nama tokkollee yoo ifatti irraa arge malee kufrii, shirkiifii munaafiqummaa itti hinmurteessu.

Angaawotaafii hooggantoota islaamummaan bulchan irratti waan karaa Rabbirraa hinbahiniin finciyuun hintahu. Isaan abaaruunis hintau jechuun yaada. Isaaniif ajajamuun dirqama waan dilitti nama hin ajajiniin. Akka rabiin isaan qajeelchuufii nagaya isaan baasu du'aa'ii godhaaf.

Hajjiifii umraan hoogganaa islaamaatiin waggi raawwatamuun isii itti fufti hanga qiyaamaatti, wanni takkalleen isii hin ir'iftu yookaa hindhaabdu.

Kopheerra haxaawanii ittiin salaatuun imalaafii teessorrattis hayyamamaa tahuun amana, akkuma nabirraa s.a.w. hadiisa hedduun hubatametti.

Warri sunnaafii jamaa'ah mallattoo qiyaamaa xiqqoofii guddottis ni amanan.

Raayduufii falfaltuu hindhuga'oomsinu, nama waan qur'aanaafii hadiisa faalleessu himatu hunda hinqeeballu.



Sadarkaa sahaabaatiifi maatii Nabii s.a.w. dhuga'oomsuu

Sahaabaa nabii s.a.w. ninjaaladha. Garuu jaala tokkoo isaanii keessatti daangaa hinbahu. Toltuun malee isaan hindubbadhu, tokko isaaniillee hindiiineffadhu, nama isaan jibe hamtuun maqaa isaanii dubbatu ninjibba.

Karaa raafidhaa garee sahaabaa jibbitee arrabsituu nin morma, garee nawaasib jedhamtu tan jechaafii hojiinis maatii nabii s.a.w. rakkistu nimorma.

Sahaabaa jaalachuu diinirraayi, iimaana, ihsaanarraayi. Isaan jibbuun kufrii munaafiqummaafii jallinna.

Angoo islaama bulchuu Nabiin booda abii bakiif itti aansee umariif itti aansee usmaaniif itti aansee aliyyiif tahuun nin amana. Isaan afreen kuni bakka bu'oota qajeeloodha.imaamoowwan sirraawoodha.

Gaariin isaan dubbadha, Rabbi irraa haajaalatu

jedheen kadha, Jannata nin mirkaneessa jarreen kurnan nabiin s.a.w. mirkaneesef sanii. Isaanis akka nabiin s.a.w. jedhetti

Abuu bakri, umar, usmaan, aliyyi, xalhaa ubeydillaah, zubeyri binu awaammi, sa'adi binu abii waqqaas, said binu zeydi, abdurrahmaan binu oowfi, abuu ubeydaa binuljarraah.(inni amanamaa ummata kanaati).

Maatii nbii ninjaaladha nin kabaja, dhaamsa nabii s.a.w. kan waayee isaanii keessatti dhaammate ninkabaja, ittinhojjadha.

Yaziid binu hayyaan akki jedhe nabiin s.a.w. guyyaa tokko bakka bishaan kummaa jedhamu kan makkaafii madiinaa jiddutti argamurratti nukeessaa olka'ee dhaabbatee gorse,akkana jedhe

«أَمَّا بَعْدُ، أَلَا إِيَّاهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيمْكُمْ شَقَّلَيْنِ: أَوْلَهُمَا كِتَابُ اللَّهِ؛ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، فَخُذُّدُوا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ»، فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَهْلُ بَيْتِي؛ أَذْكُرْ كُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أَذْكُرْ كُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أَذْكُرْ كُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي».

Nabiin s.a.w.akkana jedhe “eeganaa yaa ummata ani namuma yaamichi Rabbii kiyyaa natti dhufee awwaachuun kiyya nimala. (duaan adduniyarraa deemuun kiyya nimala). Kabajamoo lama isin keessatti dhiise, kanduraa kitaaba Rabbiiti isa keessa ifaafii qajeellootujira. Kitaaba Rabbiii qabadhaa, itti rarra’aa,

kitaaba Rabbiiratti kakaase kajeelchise, eegasii nijedhe maatii kiyya, Rabbiin isin yaadachiisa waayee maatii kiyyaa, Rabbiin isin yaadachiisa waayee maatii kiyyaa, Rabbiin isin yaadachiisa waayee maatii kiyyaa”.

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمِلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا: آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَمَرِيمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ التَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ» متفق عليه.

Haawwan mu'imintootaa Niitiiwan nabii keenyaa ninkabaja, isaan warra isaa kan aakhiraa tahuu nin amana. Keesattuu haadha mu'imintootaa khadiija haadha joollee isaa hedduu, akkasuma aishaa haadha muimintootaa dhuga'oomfamtuu intala abiibakrii.

Sadarkaan isii guddaadha.

Nabiin s.a.w. akkana jedhe “dhiirrarraa hedduutu sadarkaa gaye, dubartirraammoo aasiyaajaartifir'oownaa, Maryam intala imraan, caalmayinni aaishaan dubartii biroorra caaltu akka fitfitoon nyaata biraa caaltuudha”.

وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ، هَذَا جِبْرِيلٌ يَقْرُأُ عَلَيْكِ السَّلَامُ»، فَقَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّ كَاتِبُهُ» متفق عليه.

Aaisharraa odeeffamee nabiin s.a.w. akki jedheen “yaa aaishaa kuni jibriili salaamataa sirratti qara'a”.

Ni amanan namni aaishaa waan Rabbiin irraa

Aqiidaa Ahlu Suunnaafii Jamaa'aa

qulqulleesseen darbate (maqaa xureesse) Rabbitti kafaree jira, waan Rabbi kijibsiiseef jech.

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الْجُنُسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا﴾
[الأحزاب: ٣٣]

Ni amanan namni sahaabaafii maatii nabii gaariin dubbate munaafiqummarraa qulqullaawe,

Qulqullaawuu maatii nabii Rabbiin raga bahee jira. Akkana jedhe “yaa warra manaa Rabbiin wanni fedhu najisa isinirraa deemsisee isin qulqulleeysuudha qulqulleessisiinsa”.

Ulamaa'i salafaa ninjaaladha shaabarraa kaasee tabi'iyyootaa imaammaniifii warren isaan boodaas. Warra beekkomsaa warra diin ninjaaladha hamtuun isaan hindubbadhu, garuu isaan anbiyyoota hincaalchisu.

Warri sunnaa karaamaa gabroottan rabbi nidhuga'oomsan, tan karaa dhugaatiin mirkanooyte. Karaamaa san kan argatan barakaanabiyyi hordofuufii diin kana jabeessanii qabachuu isaaniitiini.





Guyyaa boodaatti amanuu

Warren sunnaafii jamaa'aa Guyyaa aakhiraatti ni amanan. inni guyyaa qiyamaati waan isa keessatti tahuus kan akka kaafamiinsa, walitti qabamiinsaa, herregamuu, galata galfamuu, laga howdii, miizaana, siraax, jannataafii ibidda kanneen hundaawu nidhuga'oomsan.

Guyyaa qiyamaa qaamni qabrirraa biyyee keessaan kaafameeti lubbuun itti deebifamtii ni dhuga'oomsan. Namni kanatti hin amanin kaafira.

Rabbiin akkana jedhe

﴿زَعَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبَشِّرُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّكَ لَتَعْلَمُنَّ مَا تَبْغُونَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [التغابن: 7]

“warreen kafaran hinkafamanii himatan, jedhiin Rabbii kiyyatti kakadhee nikaafamtan, eegasii waan hojjatan ni odeeffamtan, kuni Rabbirratti laafaadha”. Tagaabun 7

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّكَ لَتَأْتِنَّكُمْ عَلِمٌ﴾

الْغَيْبُ لَا يَعْلَمُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْفَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينٍ ﴿سِيَّارٌ : ٣﴾ .

Rabbiin akkana jedhe “Warri kafaran -Qiyaamaan nutti hin dhuftu- jedhan“Akka isin jettanii mitiRabbii kiyya beekaa waan fagootiin kakadhee! Isheen dhugumatti, isinitti dhufti” jedhiinWanti hanga madaala atamii, wanti sana irra xiqqaafi kan sana irra guddas samii keessaafi dachii keessattis, isa irraa kan hin fagaanne ta’ee, kitaaba ifa baasaa ta’e keessa jiraatu malee (hin hafu).

﴿وَيَسْتَعْوِنُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌ وَمَا أَنْتُ بِمُعَجِّزٍ بِكَ﴾ . [يونس: ٥٣]

“Sila inni (Guyyaan Qiyaamaa) dhugaa dhaa?” (jechuun) si odeeffatu“Eeyyeen! Gooftaa kiyyatti kakadhee! Inni dhugaadhalisinis (isa jalaa) miliquu hin dandeessan” jedhi.





Qormaatatti amanuu

Warren sunnaa Rabbiin guyyaa qiyaamaa nama herreegatti ni amanan.

Kitaaba Kitaabaatu namaaf kennama, mirgaan yookaa bitaan akkuma hojii abbaatiin.

Rabbiinakkana jedhe”

﴿فَمَمَّا مَنْ أُوقِيَ كِتْبَهُ، بِيمِينِهِ﴾ [الإنشقاق: 7].

Namni gal mee isaa mirga isatiin kenname;

﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ [الإنشقاق: 8].

Qormataa salphaa qoramuuf jira.

﴿وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ [الإنشقاق: 9].

Gammadaa gara maatii isaa deebi'a.

﴿وَامَّا مَنْ أُوقِيَ كِتْبَهُ، وَرَأَ ظَهِيرَةً﴾ [الإنشقاق: 10].

Aqiidaa Ahlu Suunnaafii Jamaa'aa

Namni galmee isaa dugda duubaan kennname immoo;

﴿فَسَوْفَ يَدْعُوا تُبُورًا﴾ [الإنشقاق: 11].

Badii kadhachuuf jira.

﴿وَيَصْلَى سَعِيرًا﴾ [الإنشقاق: 12].

Ibidda boba'aa seena.

﴿إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ [الإنشقاق: 13].

Dhugumatti, inni maatii isaa keessatti gammadaa ture.

﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَنَّ لَنْ يَحْوُن﴾ [الإنشقاق: 14].

Dhugamatti, inni (gama Rabbii) deebi'uu dhabuu yaade.

﴿بَلَّ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾ [الإنشقاق: 15].

Lakki! (ni deebi'a)Gooftaan isaa isa argaadha.

﴿فَأَمَّا مَنْ أُولَئِكَ رَبُّهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمْ أُفْرَءُ وَأَكْنِيَهُ﴾ [الحاقة: 19].

Namni kitaaba isaa mirga isaatiiin kennname ni jedha:
“hoodhaa kitaaba kiyya dubbisaa.

﴿إِنِّي طَنَتُ أَنِّي مُلَقِّ حَسَابِيَة﴾ [الحاقة: 20].

Ani qormaataa koo qunnamuu dhugoomseen ture.”

﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ [الحاقة: 21].

Innis jirenya jaalatamtuu keessa ta'a.

﴿فِي جَنَّةٍ عَالِكَةٍ﴾ [الحقة: 22].

Jannata ol fuudhamtuu keessa (ta'a).

﴿قُطُوفُهَا دَائِنَةٌ﴾ [الحقة: 23].

Kan firriwwan ishee dhihoo ta'an;

﴿كُوْنُوا وَأَشْرِبُوْا هَنِيْسًا يِمَّا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَّةِ﴾ [الحقة: 24].

"Waan guyyoota darban keessa dabarfattaniif jecha gammadoo ta'atii nyaadhaa; dhugaa" (isaaniin jedhama).

﴿وَمَمَّا مَنْ أُوقِيَ كِبَّهُ، بِشَمَالِهِ، فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتْبِيَّهُ﴾ [الحقة: 25].

Namni kitaaba isaa bitaa isaatiin kennames ni jedha: "yaa badii kiyya! Odoon kitaaba kiyya kennamuu hafee.

﴿وَلَمْ أَدْرِ مَا حَسَابِيَّهُ﴾ [الحقة: 26].

Qormaanni kiyya maal akka ta'es (odoon) beekuu hafee.

﴿يَلَيْتَهَا كَانَتِ الْفَاضِيَّةَ﴾ [الحقة: 27].

Odoo isheen xumura (jiruu) kiyyaa taateen hawwa!

﴿مَا أَغْفَنَ عَنِ مَالِيَّهُ﴾ [الحقة: 28].

Qabeenyi kiyya homaa nan duroomsine (fayyadne).

﴿هَلَّكَ عَنِ سُلْطَنِيَّهُ﴾ [الحقة: 29].

Taaytaan kiyyas narraa bade" (jedha).

Miizaana Warri sunnaa fii jamaa'ah miizaana guyyaa

Aqiidaa Ahlu Suunnaafii Jamaa'aa

qiyaamaatti ni amanan. Namaafii hojii isaallee miizaana mul'ataa sahnaa lama qabuun miizaanaman.

﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحُقُّ فَنَّثَلَتْ مَوَازِينُهُ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾
[الأعراف: 8]

Madaalli guyyaa san dhugaadha Namni madaalli (hojii gaarii) isaa ulfaatte, isaan sun isaanumatu milkaayoodha.

﴿وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِينُهُ، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِإِيمَانِهِمْ يَظْلِمُونَ﴾ [الأعراف: 9]

Namni madaalli (hojii gaarii) isaa salphatte immoo, isaan sun warra waan keeyyatoota keenya miidhaa turaniif lubbuu isaanii hoongessaniidha.





Howditti amanuu

Warri sunnaa howdii nabii keenyaatti ni amanan. Inni naanniga dirree qiyamaatti tahe. Isa corooraalamaatu laga kawsar kan jannataarraa itti yaa'a. bishaanaisaa aananirra addaata, daymarra mi'aawa, baradarraqabbanaawa, miskirra urgaawa.dheerinni isaa deemsaj'i'atokkoo bal'inni isaa deemsaj'i'atokkooti.

Kubbaayyaaleen isaa hedduminnaa akka urjii samiiti akka hadiisaan mirkanaayetti. Namni siraaxirra cehenagaya bahee warra jannataarraa taheera.

﴿وَإِنْ مَنْكُفٌ إِلَّا وَارِدٌ هَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّمًا مَقْضِيًّا﴾ [سورة مریم: ٧١]

Isin irraa eenyulleen ishee seenu malee hin hafuDirqama Rabbii keetiin murteeffameedha.

﴿ثُمَّ تُنَجِّي الَّذِينَ أَتَقْوَأَوْ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا حِشْيَةً﴾ [مریم: ٧٢]

Sana booda warra Rabbiin sodaatan nagaa baafna; warra miidhaa hojjatan immoo ishee keessatti jilbiiffatoo taasifnee (isaan) dhiifna.





Jannataafii ibiddatti amanuu

Warri sunnaa jannataafii ibidda azaabaatti ni amanan. Isiin lachuu amma nijirti. Hinbaddu hindhabamtu, isiin lameenuu ganda galata dalagaa namaati.

Jannanni ganda muimintoota towhiida qabataniiti, ibidda azaabaa ganda kaafiraafii jallattootaataa, yahuudaa, kiristaana, gantoota,munaafiqota, mushriktoota, waaqeffatootaafii kkfn hundi ibidda qubatan.

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ [الإنفطار: 13].

Dhugumatti, warri toltaa hojjatan qananii keessa jiraatu

﴿وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَحَّمٍ﴾ [الإنفطار: 14].

Warri hamtaa hojjatan immoo ibidda keessa jiraatu.

﴿يَصْلُوْهَا يَوْمَ الْيَمِينِ﴾ [الإنفطار: 15].

Guyyaa murtii ishee seenu.

﴿فَمَّا أَلْذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾ [هود: 106]

Isaan hoonga'an ibidda keessa ta'u Ishee keessatti iyyansaafi himimsaatu isaaniif jira

﴿خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ [هود: 106]

Waan Gooftaan kee fedhe malee, Hanga samiifi dachiin turan ishee keessa kan turan ta'anii (ibidda keessa jiraatu) Dhugumatti, Gooftaan kee waan fedhe hojjataadha

﴿وَمَّا أَلْذِينَ سُعدُوا فِي الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاهُ عِزَّ بَرَجُوزٍ﴾ [هود: 108]

Isaan milkeeffaman immoo Jannata keessa jiraatu Waan Gooftaan kee fedhe malee, hanga samiifi dachiin turtu ishee keessatti kan hafan ta'anii (jannata keessa jiraatu) Kennaa addaan hin cinne (kennaman).





Shafaa'atti amanuu

Warri sunnaa shafaa'atti ni amanan, manguddummaa Rabbi namaaf araarsuu jechuudha. Namoonni badii gurguddoo hojjatan garuu kan towhiida qaban hedduun ibidda azaabaa seenan. Akkuma dilii isaaniitiin ibidda keessa turan. Eegasii shafa'a araaraan bahan. Yookaa rahmata Rabbiitiin baafaman. Kuni hadiisoowwan sahiihaan mirkanaayee jira.

Eega gubatanii cilee tahan achirraa baafaman, laga hayaatitti darbaman, akka biqiltuun tima galaanaarratti daddaftee magartutti mayran. Yeroo qulqullaawaniit xalilawan jannata seenuun isaaniif hayyamama.

Yoggaa dilooytonni muslimaa hundi ibbiddaraa baafamanii xumuraman ibiddi kaafirarratti cufamti zalaalamitti isii keessaa hinbahan.

﴿نَارُ أَلَّهِ الْمُوْقَدَةُ﴾ [الهمزة: 6].

(Isheen) ibidda Rabbii kan qabsiifamtuudha.

﴿الَّتِي نَطَّلَعُ عَلَى الْأَفْعَدَةِ﴾ [الهمزة: 7].

Ishee onnee irratti (laalaan ishee) mul'attuudha.

﴿إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤَصَّدَةٌ﴾ [الهمزة: 8].

Dhugumatti, isheen isaan irratti cufamtuudha.

﴿فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ﴾ [الهمزة: 9].

Utubaalee diriirfamaa keessatti (itti cufama).

﴿يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَرِيجٍ مِّنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَكْبَرٌ مُّقِيمٌ﴾ [المائدة: 37].

Ibidda irraa ba'uu fedhulsaanis ishee irraa kan ba'anii mitiisaaniif adabbii itti fufaatu jira.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَتَبْعَوُا لَوْ أَكَ لَنَا كَرَّةً فَنَتَّيْرًا مِّنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنْنَا كَذَلِكَ يُرِيهُمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَرِيجٍ مِّنَ النَّارِ﴾ [البقرة: 167].

Isaan hordofanis ni jedhu: "odoo carraan (gara addunyaa) deebi'uu nuuf jiraatee, silaa akkuma isaan nurraa qulqullaayan nutis isaan irraa qulqulloofna turre." Akka kanatti Rabbiin hojiiwwan isaanii gaabbi (sheenaa) isaan irratti godhee isaanitti mul'isaan ibidda irraas bahoo miti.

﴿لَيَشْئَنَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ [البأ: 23].


﴿وَنَخْرُشُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمَيَا وَبَكَمَا وَصْمَمَا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلُّمَا خَبَثَ زِدَنَهُمْ سَعِيرًا﴾ [الإسراء: 97].

Waan kanaan walqabatuttis ni amanan sunis jiruu barzakaa kan du'aaboodaatti waan argamu nidhuga'oomsan. Sunis lubbuun qabrii keessatti namatti deeffamtee kaafamuu, azaabaafii qananii qabrii keessaa, maleykaan lama kan nakiiriifii munkar jedhaman qabrii keessatti nama gaafatan. Rabbiin kee eenyu/ nabiyyiin kee eenyu? Diin (amantiin) kee kami? Jedhanii gaafatu.

Qabrii keessatti hulaaleen jannataa yookaa azaabaa gabricharratti banamti. Qabriin caffee jannatarraa taate taati, yookaa boolla ibiddarrraa taate taati. Qabriin walitti nama hacuucuuttis ni amanan. Kuni hundinuu hadiisa sahiihaan mirkanaayee jira.







Murtii Rabbiitti (qadaratti) amanuu. Toltuufii hamtuu isaatti

Murtii Rabbiitti ni amanan toltoofii hamtuu isiitti.
Qadarri sadarkaa afur qaba

Beekkomsa, barreessuu, fedhuu, uumuu.

Beekkomsa Rabbiitti ni amanan, Rabbiin waan hunda
osoo isiin hin argamin beekee jira. Waan argamee dabres
waan amma argamaa jirus waan fuula dura argamuuf
jiraatus, waan hinargaminis osoo argamee akkamitti akka
argamu hunda Rabbiin beekee jira.

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ﴾ [البقرة: 231]

Rabbiin sodaadhaas Akka Rabbiin waan hunda beekaa
ta'ees beekaa.

﴿الَّهُ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ
وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: 40]

Sila Rabbiin mootummaan samiifi dachii kan Isaa ta'uu hin beeknee! Nama fedhe ni adaba; nama fedheef ni araaramaRabbiin waan hunda irratti danda'aadha

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّنَا لَتَأْتِنَّكُمْ عَلَيْمٌ الْعَيْنُ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ [سبأ: 3].

Warri kafaran “Qiyaamaan nutti hin dhuftu” jedhan“Akka isin jettanii mitiRabbi kiyya beekaa waan fagootiin kakadhee! Isheen dhugumatti, isinitti dhufti” jedhiinWanti hanga madaala atamii, wanti sana irra xiqlaafi kan sana irra guddas samii keessaafi dachii keessattis, isa irraa kan hin fagaanne ta'ee, kitaaba ifa baasaa ta'e keessa jiraatu malee (hin hafu)

Kitaabatti ni amanan. Rabbiin waan hunda zikrii (lawhal mahfuuz) keessatti katabee jira. Waan hunda beekee barreessee jira, qaamota, bifoota, amaloota, hojiwwan, soso'a, callisa, jiidhaa, goggogaa, jiruu, du'a, milkii, hoongoo, kabajaa, xiqlaenya, dadhabbii, dandayyii hundaa beekee barreessee jira.

﴿ أَللَّهُ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحج: 70].

Sila Rabbiin wantoota samiifi dachii keessa jiran hunda akka beeku hin beektuu? Dhugumatti, kun kitaaba (Lawhal Mahfuuz) keessa jiraDhugumatti, kun Rabbi

irratti laafaadha.

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ تَبَرَّأُهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الجديد: 22].

Rakkoo irraa wanti dachiifi lubbuu keessan keessatti isin tuqe kamillee, odoo ishee hin uumin dura kitaaba keessatti galmeessinu malee hin hafuDhugumatti, kun Rabbi irratti laafaadha.

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَاجَةٌ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَأْسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [الأعراف: 59].

Furtuuwwan fagoo (ghaybii) Isa bira jira. Isa malee homtuu ishee hin beekuInni waan dachii keessa jiruufi waan bahra keessa jirus ni beekaBaala irraas tokkollee inni beeku malee hin kufuFiriin dukkana dachii keessaa, jiidhaafi gogaanis kitaaba ifa ta'e keessa jiraatu malee hin hafu.

وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم مرفوعاً في «صحيف مسلم»: «كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ»، قال: «وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ».

Hadiisa abdallaah binu amri kan sahiha muslim keessatti taherratti nabiin s.a.w. akkana jedhan “Rabbiin murtiilee umamtootaa osoo samiifii dachii hin uumin dura wagga kuma shantamatti barreesse, arshiin isaa

bishaanirratti tahe”.

﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْكِي الْمَوْفَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَأَثْرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَاءٍ مُّبِينٍ﴾ [يس: 12]

Nuti numatu du'aa jiraachifna Waan isaan hojjatanii dabarsaniifi hambaalee isaanii ni barreessina Waan hundayyuu kitaaba ifa bahaa keessatti galmeessinee jirra

﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَاءٍ وَمَا نَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفْيِضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزِبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالٍ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [يونس: 61]

(Yaa Muhammad!) Hojji kamillee keessatti hin taatu, Qur'aana irraas isa hin dubbiftu, dalagaa irraa waan tokkos hin hojjattan, yeroo isin isatti seentan Nuti isin irratti ragaa taanu malee hin hafu Wanti hanga atomii dachii keessattis ta'ee, samii keessattis Rabbii kee irraa hin fagaatu Wanti san irra xiqqaas ta'ee, guuddaan kitaaba addeessaa ta'e keessatti jiraatu malee hin hafu

Wanti hundi fedhii Rabbiitiin taatitti ni amanan, wanni inni hinfedhin hintaatu hinargamtu jechuudha dhuga'oomsan. Rabbiin waan fedhe hojjata, tainni fedhe nitaati, tan inni hinfedhin hintaatu.

﴿خَلِيلِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ [هود: 107]

Hanga samiifi dachiin turan ishee keessa kan turan ta'anii (ibidda keessa jiraatu) Waan Gooftaan kee fedhe malee, Dhugumatti, Gooftaan kee waan fedhe hojjataadha

﴿فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ﴾ [البروج: 16]

Waan fedhe dalaadha.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَنَهْرًا إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [الحج: 14].

Dhugumatti, Rabbiin isaan amanaii, gaggaarii dalagan Jannata laggeen ishee jala yaatu isaan seensisa Dhugumatti, Rabbiin waan fedhu hojjata.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْعِدُ لَهُ مَنِ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنِ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجَبَلُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُرِنَ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ شُكْرٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [الحج: 18].

Sila akka Rabbiin wanti samii keessa jiruufi wanti dachii keessa jiruus, aduun, jiini, urjiwwan, gaarreen, mukkeen, lubbu qabeeyyiifi namoonni baay'enis sujuuda Isaaf godhan hin arginee? (Namoota) baay'ee adabbiin isa irratti mirkanaa'ee jiraNama Rabbiin isa salphise immoo namni isa kabaju hin jiruDhugumatti, Rabbiin waan fedhe hojjata.

﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ أَحْلَتْ لَكُمْ بِهِمَةً أَلَّا نَعْمَمْ إِلَّا مَا يُتَلَقَّى عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحْلَّ الصَّدَدِ وَأَنْتُمْ حُرُومٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ [المائدة: 1].

Yaa warra amantan! Waadaa guutaa; (Hajjiifi umraa) kan hidhattan taatanii adamsuu halaala haala hin godhatiniin wanti isin irratti dubbifamu qofti odo hafuu beelladoonni isiniif halaala godhamteettiRabbiin waan fedhe murteessa

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: 30].

Yoo Rabbiin fedhe malee isin homaa hin feetanRabbiin beekaa ogeessa ta'eera

﴿فَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يُشَرِّحُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضْلِلَهُ يَجْعَلُ صَدَرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الْرَّجُسُ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: 125].

Namni Rabbiin isa qajeelchuu fedhe, qoma Isaa Islaamaaf bal'isa. Nama isa jallisuu fedhe immoo qoma isaa akkaan dhiphaa, rakkataa akka nama samii keessa ol ba'uu taasisa. Akka kanatti Rabbiin adabbii warra hin amanne irratti godha.

Fedhiin Rabbii tan olitti dubbatamte tuni fedhii Rabbii tan kownii tan uumaati, fedhii diinii tan shari'aan itti ajaje tan jaalalaafii jibbaan irratti dhaabbattuu miti.

﴿إِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفَّارُ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرٌ وِزْرًا أَخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُبَيِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [الزمر: 7].

Yoo kafartanis, dhugumatti Rabbiin isin irraa dureessaGaruu gabroota Isaatiif kufrii hin jaallatuYoo

(Isa) galateeffattan isa isiniif ni jaallata(Lubbuun) dilii hojjattu tokko dilii (nama) biraan hin baadhattu Ergasii deebiin keessan gara Gooftaa keessaniitiInnis waan isin dalagaa turtan isinitti odeessaDhugumatti, Inni beekaa waan qoma keessaati.

﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [الأنفال: ٦٧]

[67]

Nabiyyii kamiifuu hanga lafa irratti injifatutti (ajjeechaa isaanii bakkaan gahutti), booji'amtoonni isaaf ta'uun isaaf hin maluIsin meeshaa (faa'idaa) addunyaa feetu; Rabbiin immoo Aakhiraa (isiniif) fedhaRabbiin injifataa, ogeessa.

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِذِهَبَ عَنْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْهِرُكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٣]

Manneen keessan keessa taa'aa; akka mul'ifannaaraa bara wallaalaalaa duriittis miidhagina keessan hin mul'isinaa; salaatas sirnaan dhaabaa; zakaas kenna; Rabbiifi ergamaa Isaatiifis ajajamaa Yaa maatii nabiyyichaa! Wanti Rabbiin fedhu xurii isin irraa deemsisee qulqulleessiinsa isin qulqulleessuu fedha.

Warren sunnaa Rabbiitu waan jiru kana hunda uumetti ni amanan. Kan waa uumu isa malee hinjiru, nama jinni fii bineensota hunda isaatu uume. Hojii isaaniillee isaatu uume, humna isaan isiiin dalaganillee isaatu uume.

Rabbi akkana jedhe

“Rabbiin isaatu uumoo waa hundaati.”

Rabbiin akkana jedhe “isiniifii waan isin dalaydanillee uume.”

Rabbiin akkana jedhe “nuti waa hundaawu murtiin uumne.”

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ تُمْ صَوْرَتُكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةَ أَسْجُدُوا لِلنَّاسِ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ [الأعراف: 11].

“Dhugumatti, isin uumneerra Ergasiis suuraa isinitti goone, Ergasiis maleykotaan Aadamiif sujuuda jenne, Achumaan sujuudani; Ibliis maleeInni warra sujuudan irraa hin taane”

﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجَدَوْتُمْ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَمِ شَنِينَةً أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلْمَدَتِ ثَلَاثَةٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنَّ شَرْفَهُنَّ﴾ [الزمر: 6].

Lubuu tokko irraa isin uumee, ergasii ishee irraa cimdiis ishee taasisi; beeyladoota irraas cimdiwwan saddeet isiniif buuse; Garaa haadha keessanii keessatti uumama boodaan uumama godhee dukkana sadii keessatti isin uumaKun Rabbi gabbaramaa keessan ta'eedhaMootummaan kan IsaatiIsa malee dhugaan gabbaramaan hin jiruAkkamumatti (Isarraa) gara galjamturee?

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلْتُ أَيْدِيهِنَا أَنْعَمْنَا فَهُمْ لَهُ كَامِلُوكُونَ﴾ [يس: 71].

Sila waan harki keenya dalagde irraa beyladoota isaaniif uumnee isaan ishee horatoo ta'an hin ilaalleel?

﴿وَلَمْ يَرَهُنْ سَأْلَتْهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ فَإِنَّمَا يُؤْفَكُونَ﴾ [العنكبوت: 61].

Dhugumatti “eenyutu samiifi dachii uumee, aduufi baatiis laaffise?” jettee yoo isaan gaafatte “Allaahdha” siin jedhuAkkamitti (tawhiida irraa) garagalfamu ree?

﴿لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [غافر: 57].

Samiifi dachii uumuutu namaa uumuu irra guddaadha Garuu irra hedduun namootaa hin beekanu

﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدْرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بِلَىٰ وَهُوَ الْخَالقُ الْعَلِيمُ﴾ [يس: 81].

Sila Inni samiifi dachii uume fakkaataa isaanii uumuu irratti danda'aa mitii? Eeyyeen (danda'aa dha!)Inni akkaan uumaa, beekaadha.

في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في وصية النبي ﷺ له، قال رضي الله عنه: كنت خلف النبي ﷺ فقال لي: «يا غلام، إني أعلمك كلامات: أحفظ الله يحفظك، أحفظ الله تحده تجاهك، إذا سألك فاسأله، وإذا استمعت فاستعين بالله، وأعلم أنَّ الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرُوك بشيء، لم يضرُوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجافت الصحف». رواه الترمذى وقال: حديث حسن صحيح. وفي

رواية غير الترمذى: «احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وأعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصييك، وما أصابتك لم يكن ليخطئك، وأعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يُسراً».

Abul Abbaas Abdullaah bin Abbaas irraa odeeefamee (ra) ni jedhe: ‘guyyaa tokko duuba Ergamaa Rabbiin (saw) ture. Ni jedhan: “yaa gurba! Ani himootii wahiin si barsiisa: Rabbiin tiksi inni si tiksa; Rabbiin tiksi fuuldura keetti isa argita. Yeroo kadhattu Rabbiin kadhu. Yeroo gargaarsa barbaaddu Rabbiraa barbaadi. Ummanni odoma si fayyaduu irratti walii galaniiyuu waan Rabbiin siif barreesseen malee si hin fayyadanuu beeki. Yoo si miidhuu irratti walii galanis waan Rabbiin srratti barreesseen malee si hin miidhanuus beeki. Qalamiin ol kaafamteetti; waraqaanis gogdeetti.” Tirmiziit gabaase. Hadiisichi hasan sahiha jedhe. Gabaasa biraatiin immoo ni jedhan: “Rabbitiksi fuuldura keetti isa argita. Yeroo bal’inaa keessa gama Rabbiti beekami; yeroo cinqii si beeka. Beeki! Wanti si bira tare kan si tuqu hin taane; wanti si tuqes kan si bira taru hin taane. Tumsi obsa waliin, qaawwi banamuun rakkoo waliin ta’uifi dhiphina wajjin bal’inni akka jiru beeki.”

Kuni bu’ura yookaa utubaalee iimaanaa jahan qur'aana keessatti dubbatame kan hadiisa jibriiliin ibsame. Imaanni nama tokkoollee isii mirkaneessan malee hinguutamu. Kanaan wajji shahaadaa lameen afaaaniin jechuun dirqama.

Ash'hadu allaa ilaaha illallaahu wa ash'hadu anna muhammadan rasuulullaah" afaaaniin jechuu barbaachisa.

Jech tokkummaa "laa ilaaha illallaah" f seera 5tu jira kunoo isiinis tanneeni.

1-isii arrabaan dubbachuu barbaachisa.

2-seera (ulaagaa isii guutuu).

3-hiikkaa isii dhuga'oomsuu.

4-murtii isiitti hojjachuu.

5-waan isii faallesurraa fagaachuu.







Ulaagaalee (seera) laa ilaaha illallaah

- 1-beekkomsa wallaala dhabamsiisu.
- 2-mirkaneeffannaa sehaa dhabamsiisu.
- 3-fudhannaa diddaa dhabamsiisu.
- 4-ajajamuu dhiisuu dhabamsiisu.
- 5-dhuga'oomsuu kijibsiisuu dhabamsiisu.
- 6-qulqulleessuu shirkii dhabamsiisu.
- 7-jaalala jibbaa dhabamsiistu.

وزادَ بعْضُ الْعُلَمَاءِ شرطًا ثامنًاً وَهُوَ: الْكُفُرُ بِمَا يُعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ،
كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، حَرُمَ مَالُهُ، وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ».

Gariin ulamaa'aa ni ida'an 8ffaa sun waan Rabbi

malee gabbaramutti kafaruudha.

Hadiisatti nabiin s.a.w. akki jedhe “ namni laa ilaaha illallaahu jedhee waan Rabbii achitti gabbaramutti kafare lubbuufii qabeenyi isaa teyfame, qorannoona isaa Rabbirratti taate”.





Seera Muhammad urrasuulullaah

الشرط الأول: لا بد في شهادة «أنَّ مُحَمَّداً رسول الله» مع النطق بها من تحقيق شروطها واعتقاد معناها، والعمل بمقتضها، والبعد عمّا يُنافقها.

Muhammadurrasuulullah raga bahuun wajji seera (ulaagaa) isii guutuun barbaachisaadha.

Hiikkaa isii dhuga'oomsuun barbaachisaadha. Isitti hojjachuufi waan isii faallessurraa fagaachuun barbaachisaadha.

Dhuga'oomsuu nabiyyumaa dabalatee nabiyyii abboota isaa beekuun barbaachisaadha.

Inni Muhammad Abdallaah abdul muxxalib haashimii, qureyshii, guddate, eegasii madiinatti godaane, ergamaa Rabbiin umamtoota nama,fii jinni hundatti erge, arabaafii ajamas, inni xumura anbiyootatiifii ergamtootaati. Seerri amntii isaa amantilee isa duraa hunda shaaree jira. Seerri

amantii isaa hanga qiyaamaatti tura. Kana ulaagaan duraa shahaadaa tana keessatti.

الشرطُ الثاني: تَصْدِيقُ الرَّسُولِ ﷺ فِي أَخْبَارِهِ.

Ulaagaan 2ffaa nabiyii waan inni haasawe keessatti isa dhuga'oomsuudha.

الشرطُ الثالث: تَفْيِيدُ أَحْكَامِهِ ﷺ؛ وَذَلِكَ بِطَاعَتِهِ فِي أَوْامِرِهِ واجتناب نواهيه.

Ualaagaan 3ffaa ajaja isaa hojirra oolchuu, waan itti yaame jala deemanii waan dhoowwerraa dhoowwamuu.

الشرطُ الرابع: عِبَادَةُ اللَّهِ تَعَالَى بِمَا شَرَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ.

Ulagaan 4ffaa karaa inni barsiisee qofaan Rabbi gabbaruu.

Waan kalimaa towhiidaa laa ilaaha illallaahu faalleesuu keessaa ibaadaa qoodee Rabbi malee umamtoota isaatiif godhuudha. Fakkenyaaf salaata, soomana, hajjii, kadhaa, rukuu'a, sujuuda, xawaafa, qaliinsa, gosa ibaadaa kanneen biroollee kanneen akka gargaarsa Rabbiin malee waan birooraa barbaaduu. Akkasuma waan islaamummaa namarraa diigu keessaa tawhiidaan Rabbi tokkichoomsuu mormuu, ajaja Rabbii diduu, akkasuma maqaa maqaalee Rabbiirraa tahe mormuu, yookaa sifa sifaata Rabbiirraa taate mormuu, akkasuma oduu Rabbiin haasaye mormuu, tan nabiyyiin haasaye mormuu, kaafama du'a boodaa mormuu, qormaata, galata, jannataafii azaaba mormuu. Waajibummaa salaataa mormuu, zakaa, soomana, hajjii

waajibummaa isii mormuu. Yookaa salaata hifatee laaffisee dhiisuu osoo waajibummaa mormuu baatellee. Kuni hundinuu waan nama kafarsiisu.

Fakkenyaa waan islaamummaa balleysuurraa waan islaamummaa keessatti haraamummaan isaa beekamaa tahe tokko haraamummaa isaa mormuudha. Lubbu isaa yooka lubuu nاما haqaan malee ajjeesuun haram tahuu mormuu dha. Dhala nyaachuun , zinaa godhuun, farshoo dhuguu, haadhaa abbaatti aaqqawuun, rahima muruun, kuni hundi dhoowwaa mita jedhee mormuudha.

Gubboo nyaatuun, raga dharaa raga bahuun, qabeenya yatiimaa nyaachuun, nاما hamachuun, nاما waliin fixuun, kuni hundinuu haraamii miti dhoowwaa miti jedhee mormuuun waan nama kafarsiisu.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطِيعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَقْهُونُ﴾ [المنافقون: ٣].

Fakkeenya waan islaamummaa namarraa balleessaarraig arrabaan islaamummaa dubbatee mul'isee qalbitti kufrii gadi dhoyfachuu, munaafiqaa tahuu. Islaamummaa garsiifannaaf, du'a sodaaf, qabeenya argachuuf seenuudha. Akka haala munaafiqatti.

Rabbiin akkana jedha “

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا شَهَدْ إِنَّا لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ﴾ [المنافقون: ١].

Munaafiqoonni yeroo sitti dhufan "ati Ergamaa Rabbii ta'uun kee ragaa baana" jedhuDhugumatti Rabbiin

Aqiidaa Ahlu Suunnaafii Jamaa'aa

ati Ergamaa isaa ta'uu ni beekaMunaafiqoonni akkaan sobdoota ta'uu Rabbiin ragaa ba'a

﴿أَنْخَذُوا أَيْمَنَهُمْ جُنَاحَهُ فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

[المنافقون: 2].

Kakuu isaanii gaachana godhatanii karaa Rabbii irraa (namoota) deebisulsaan dhugumatti wanti isaan dalagaa turan fokkate

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُغَيْتِ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [المنافقون: 3].

Kunis sababa isaan amananii ergasii kafaraniifi Waan onnee isaanii irratti cufameef isaan hin hubatanu.

﴿وَإِذَا رَأَيْتُمْ تَعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِغَوَاطِحِ كَانُوهُمْ حُشْبٌ مُّسَنَّدٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعُدُوُّ فَأَحَدُهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ﴾

[المنافقون: 4].

Yeroo isaan argites qaamoleen isaanii si dinqisiifti Yoo isaan haasa'anis dubbii isaanii ni dhageeffatalsaan akka mukkeen hirkifameetiIyya hundaa isaan irratti (iyame) jechuu yaadulsaanumatu diinota; kanaafuu isaan eeggadhu Rabbiin isaan haa abaaruu akkamitti (amantii irraa) deebi'u!

Fakkeenywaan nama kafarsiisurraa Rabbiin kijibiisuu, yookaa Rasuula isaa kijibiisuu garii waan inni dhufeennii keessatti. Rabbi jibbuu yookaa ergamaa Rabbii jibbuu, yookaa waan seera Rabbirraa dhufe tokko jibbuu, yookaa kan ergamaa Rabbiirraa dhufe jibbuu. haasawa Rabbiifi Rasuulaa shakkuu, qiyaamaa, kaafamiinsa, jannata, azaaba shakkuu.

Rabbiin namtichii ooyruu masnoo lama qabu kafaruu isaa ibse. Kunis sababaa inni qiyaamaa shakkeefi.

Rabbiinwaayee seenaa isaa akkatti ibse

﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، قَالَ مَا أَطْنَعْنَاكَ أَنْ تَبْيَدَ هَذِهِ أَبْدًا﴾

[الكهف: 35]

Haala lubbuu isaa miidhaa ta'een oyruu isaa seenee ni jedhe: "Isiin kun gonkumaa ni baddii hin yaadu.

﴿وَمَا أَطْنَعْنَا السَّاعَةَ قَاءِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْنَا إِلَى رَبِّ الْأَجْدَنَ حَيْرًا مِنْهَا﴾

[الكهف: 36]

Qiyaamaanis ni dhaabbattii hin yaadu Dhugumatti, yoon gara Gooftaa kiyyaa deebifameef, iddo Deebii kan isa caaluun argadha."

﴿قَالَ لَهُ، صَاحِبُهُ، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، أَكَفَرْتَ بِاللَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّنَكَ رَجَلًا﴾

[الكهف: 37]

Hiriyyaan Isaas kan Isaan haasa'u ta'ee ni jedhe: "Sila ati Isa biyyee irraa, ergasii bishaan saalaa irraa si uumee, ergasii nama guutuu si godhetti kafartee?

﴿لَذِكْنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾

[الكهف: 38]

Ani garuu Inni, Allaah'n Gooftaa kiyya; ani Gooftaa kiyyatti tokkollee hin dabalu

Fakkeenya waan nama kafarsiisurraa diin islaamaa guddatee injifatuu jibuu. Yookaa kufaatiifii laafinni diin Rabbii islaamummaa isa gammachiisuu. Akkasuma

kufaatiin muslimtootaa isa gammachiisuu.

Waan nama kafarsiisu keessaa Nabi Muhammad jala deemuun dirqamaa miti jedhanii yaaduu.

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةَ أَسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبْنَى وَأَسْتَكْبَرَ ۝
وَكَانَ مِنَ الْكَفَرِينَ ۝ [البقرة: ٣٤]

Waan nama kafarsiisurraa ajaja Rabbiitiifi Rasuulaa didee boonee ibaadaa Rabbii diduu. Akka ibliis, fir'oownaa, yahuudaa, abiixaalib adeera Nabii s.a.w. , akka jarreen kanaa tahuudha. Jarri kuni warra jaja ergamaa Rabbiirraa boonee dide.

Rabbiin kanarraa nuuf himeeakkana jedhe

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةَ أَسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبْنَى وَأَسْتَكْبَرَ ۝
وَكَانَ مِنَ الْكَفَرِينَ ۝ [البقرة: ٣٤]

Yeroo Nuti malaa'ikootaan "Aadamiif sujuuda [] godhaa" jennes [yaadadhu]Ibliisa malee Isaan sujuuda godhan; [Inni] ni dide; ni boonesKaafiroota irraayis ta'e.

Waan nama kafarsiisurraa qur'aanaafii hadiisaan murteeffachuuun dirqamaa miti jedhee yaaduu.

Waan nama kafarsiisurraa diin Rabbiirraa gara galuukan baranne kan itti hindalayne kan Rabbiin hingabbarre.

Rabbiinakkana jedhe

"warren kafaran waan gorfamaniinirraa garagaloodha"



Xumura

Mataa kiyyaafii muslimtoota hundaaf diin Rabbiirra gadidhaabbachuun kadha hanga du'aatti. Rabbiin keenya waan hundarratti dandayaadhaa.

وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتَبَاعِهِ
بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.



IslamHouse.com

 IslamHouseOr

 IslamHouseOR/

 islamhouse.com/or/

 IslamHouseOr/

For more details visit
www.GuideToIslam.com



contact us :Books@guidetoislam.com

 Guidetolslam.org  Guidetoislam1  Guidetoislam  www.Guidetoislam.com

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالريوة

هاتف: +٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠ فاكس: +٩٦٦١١٤٤٩٧٠١٣٦ ص.ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧
P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

   
OFFICERABWAH





osoulcenter



www.osoulcenter.com



للحصول على نسخة إلكترونية من الكتاب وتحميله بعدة لغات



OSOUL
STORE

osoulstore.com

